

سوال

میں وہ حدیث تلاش کر رہی ہوں جس میں یہ ذکر ہے کہ پردہ والی آیت کے نزول کے بعد مسلمان عورتیں کووں کی طرح تھیں ، جو کہ اس پردلالت کرتا ہے کہ حجاب سیاہ رنگ کا ہونا چاہیئے ، کیا ممکن ہے کہ آپ اس حدیث کے بارہ میں بتائیں کہ کس کتاب اور کون سے صفحہ پر ہے ؟

پسندیدہ جواب

الحمد لله.

جس حدیث کی طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں وہ ابوداؤد رحمہ اللہ تعالیٰ نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بیان کی ہے :

ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب آیت حجاب یدنین علیہن من جلابیبہن (وہ اپنی اوڑھنیاں اوپر سے نیچے لٹکا لیں) کا نزول ہوا تو انصاری عورتیں چادروں کی وجہ سے اس طرح نکلتی تھی جس طرح کہ ان کے سروں پر کوئے ہوں - سنن ابوداؤد کتاب اللباس باب قوله تعالیٰ یدنین علیہن مین جلابیبہن -

ابوداؤد کی شرح عون المعبود کی شرح میں لکھتے ہیں :

(گویا کہ ان کے سروں پر کوئے تھے) غربان غراب کی جمع ہے اور غراب کوئے کو کہتے ہیں (من الاکسیۃ) چادروں سے ، اکسیۃ کساء کی جمع جو کہ بڑی چادر کو کہا جاتا ہے انہیں اوڑھنیاں کو کوئے سے سیاہ ہونے کی بنا پر مشابہت دی گئی ہے -

اور اس میں یہ شرط نہیں نکلتی کہ عورت کا برقعہ یا چادر سیاہ رنگ کی ہی ہونی چاہیئے لیکن سیاہ رنگ ہوسکتا ہے پردے کے اعتبار سے زیادہ سترپوشی کا باعث ہو اور دوسرے رنگوں میں اتنا پردہ نہ پایا جائے -

اس کے بارہ میں مزید تفصیل آپ مسلمان عورت کا پردے کے بارہ میں سوال نمبر (214) کا مراجعہ کریں -

والله تعالیٰ اعلم .